



## AlHadid

الْحَدِيدُ

**In the name of Allah,  
Most Gracious, Most  
Merciful.**

**1. Glorifies Allah  
whatever is in the  
heavens and the earth.  
And He is the All  
Mighty, the All Wise.**

**2. His is the dominion  
of the heavens and the  
earth. He gives life and  
He causes death, and  
He, over all things, has  
power.**

**3. He is the First,  
and the Last, and the  
Manifest, and the  
Intimate. And He, of all  
things, is the Knower.**

**4. It is He who  
created the heavens  
and the earth in six  
days, then ascended  
above the Throne. He  
knows what goes into  
the earth and what  
comes out of it, and**

الله کے نام سے جو بہت مہربان  
نہایت رحم والا ہے۔

تبیح کی ہے اللہ کی اسے جو بے  
آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہ  
بے غالب حکمت والا۔

اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور  
زمین کی۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی  
موت دیتا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر  
ہے۔

وہی اول اور آخر اور ظاہر اور پوشیدہ  
۔ اور وہ ہر چیز کا خوب جانے والا  
۔

وہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں  
اور زمین کو جوہ دن میں پھر جلوہ افروز ہوا  
عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو چیز داخل  
ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے  
اسیں سے اور جو اترتی ہے آسمان

الْحَدِيدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ اللّٰهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْكِي  
وَيُمْكِنُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ  
وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  
اسْتَوَى عَلٰى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْبِسُ  
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ  
فِيهَا وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ  
اللَّهُ مَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

what comes down from the heaven and what goes up into it. And He is with you wherever you may be. And Allah, of what you do, is Seer.

5. His is the dominion of the heavens and the earth. And unto Allah are brought back all matters.

6. He causes to enter the night into the day and causes to enter the day into the night. And He is Knower of what is in the breasts.

7. Believe in Allah and His Messenger and spend of that He has made you successor whereof. So those who believed among you and spent, for them is a great reward.

8. And what is with you that you do not believe in Allah, while the Messenger is inviting you to believe in your Lord, and indeed He has taken a covenant

سے اور جوچھتی ہے اس میں - اور وہ تمارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ اسکو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔

اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی - اور اللہ کبیط ف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔

وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں - اور وہ واقف ہے اس سے جودلوں میں ہے۔

ایمان لاوے اللہ پر اور اسکے رسول پر اور خرج کرو اسیں سے بنایا ہے اسے تکو جانشین جسمیں - پس جو ایمان لائے تم میں سے اور خرج کرتے رہے ان کے لئے ثواب ہے بہت بڑا۔

اور کیا ہوا ہے تکو کہ نہیں تم ایمان لائے اللہ پر - حالانکہ رسول بلا رہے ہیں تمہیں کہ ایمان لاوے اپنے رب پر اور بیشک وہ لے چکا ہے عمد تم

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

يُوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ  
النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِذَاتِ  
الصَّدْوْرِ

أَمْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِينَ فِيهِ  
فَالَّذِينَ أَمْتُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا  
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا  
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

with you, if you are believers.

سے اگر تم ہو ایمان والے۔

**9. It is He who sends down upon His servant manifest verses that he may bring you out from darkness into the light. And indeed, Allah is to you Most Kind, Most Merciful.**

وہ ہی ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں تاکہ نکال لائے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور بیشک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔

هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَتٍ  
بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ  
إِلَى النُّورٍ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ  
**سَاجِدٌ**

**10. And what is with you that you do not spend in the cause of Allah. While to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. Not equal among you is he who spent before the victory (of Makkah) and fought. Such are higher in rank than those who spent afterwards and fought. And to all Allah has promised of good. And Allah of whatever you do is Knower.**

اور کیا ہوا ہے تکلوکہ نہیں خرج کرتے اللہ کے راستے میں حالانکہ اللہ ہی کی ہے وراشت آسمانوں اور زمین کی۔ نہیں برابر تم میں وہ جس نے خرج کیا فتح (ملکہ) سے پہلے اور جنگ کی۔ یہ لوگ کہیں بڑھ کر میں درجہ میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرج کیا بعد میں اور جنگ کی۔ اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلانی کا۔ اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَتَفَقَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ  
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ  
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ  
وَقَاتَلُوا وَمَلَأُوا وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ

**11. Who is it that will lend to Allah a goodly loan, then He may double it for him, and for him is a noble reward.**

کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ دکنا عطا کرے اسکو اور اسکے لئے ہے بہترین اجر۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا فَيُضِعَّفَةَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
**کَرِيمٌ**

**12. On the Day you will see the believing men and the believing women, running forward their light, before them and on their right, (it will be said to them) good news for you this day of Gardens, flowing underneath of which are rivers, to abide therein. Such is that the great success.**

جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہو گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دامنی طرف (ان سے کہا جائے گا) بشارت ہے تکو آج جنتوں کی بہ رہی میں جنکے نیچے نہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں - یہی ہے وہ کامیابی بڑی عظمت والی۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَى كُمُ الْيَوْمَ  
جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهَرُ  
خَلِيلِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ

**13. On that Day will say the hypocrite men and the hypocrite women to those who believed: "Look at us so we may borrow from your light." It will be said: "Return behind you then seek light." Then shall be set up between them a wall that will have a gate. Inside of it will be mercy and outside of it from its front will be the punishment.**

اس دن کمیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے دیکھو ہماری طرف کہ حاصل کمیں ہم تمہاری روشنی سے۔ کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچے کی طرف پس تلاش کرو نور۔ پھر حائل کر دی جائے گی انکے درمیان ایک دیوار جمیں ہو گا ایک دروازہ۔ جو اسکی اندر وہی جانب ہے اسیں رحمت ہے اور جو اسکی بیرونی جانب ہے اسکی طرف ہے عذاب۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ  
لِلَّذِينَ أَمْنَوا انْظُرُوهُنَّا نَقْتَبِسُ  
مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجُعُوا  
وَرَآءَكُمْ فَالْتَّمَسُوا نُورًا  
فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَارِ  
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ  
قِيلَهُ الْعَذَابُ

**14. They will call to them: "Were we not with you." They will say: "Yes, but you led into temptation your**

پکاریں گے وہ انکو کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ۔ وہ کمیں گے ہاں لیکن تم نے فتنے میں ڈالا خود کو اور منتظر رہے اور

يَنَادُونَهُمُ الَّمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا  
بَلٌ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَّتُمْ أَنْفَسَكُمْ وَ  
تَرَبَصْتُمْ وَ ارْتَبَتُمْ وَ غَرَّتُكُمْ

الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ  
غَرَّ كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

شبہ کیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا تھکو  
آرزوں نے یہاں تک کہ آپسجا حکم  
اللہ کا اور فریب دیتا رہا تھکو اللہ کے  
بارے میں فریبی (شیطان) -

own selves, and you awaited, and doubted, and deluded you your wishful thinking until came the command of Allah, and deceived you about Allah the deceiver (Satan)."

**15.** So today, shall not be accepted from you, a ransom, nor from those who disbelieved. Your abode is the Fire. That will be your patron. And worst is the destination.

تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے  
معاوضہ اور نہ انے جنہوں نے کفر  
کیا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہی  
تمہاری رفیق ہے۔ اور وہ بری جگہ  
ہے۔

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ  
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَكَمْ  
النَّاَمِ هِيَ مَوْلَكُمْ وَ بِئْسَ  
الْمَحِيدُونَ

**16.** Has the time not come for those who believed that their hearts should humble for the remembrance of Allah and what has come down of the truth, and they should not be like those who were given the Scripture before, then passed over them long ages so became hardened their hearts. And many among them are disobedient.

کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لئے  
جو ایمان لائے کہ نہیں ہوں انکے دل  
اللہ کی یاد کے لئے اور جو مازل ہوا  
ہے حق کی طرف سے اور نہ ہو جائیں  
وہ ان لوگوں کی طرح جنکو دی گئی تھی  
کتاب پہلے۔ پھر گزگیا ان پر طویل  
عرصہ تو سخت ہو گئے انکے دل۔ اور  
اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ  
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ  
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ  
الْأَمْدُ فَقَسَطَ قُلُوبُهُمْ وَ كَثُرَ  
مِنْهُمْ فَسِقُونَ

**17.** Know that Allah gives life to the earth after its death. Indeed,

جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو  
اسکے مرنے کے بعد۔ بیشک بیان

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتَهَا قَدْ يَئِنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

We have made clear  
for you the signs that  
you may understand.

کر دی میں کھول کر ہے تم  
سے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔

18. Indeed, the men who give charity, and the women who give charity, and those lent to Allah a goodly loan, it will be multiplied for them, and for them is a noble reward.

بیشک صدقہ کرنے والے مرد اور  
صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں  
نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنة۔ کہی  
گناہ ادا کیا جائے گا انکو اور انکے لئے  
بے بہترین اجر۔

إِنَّ الْمُعْصِلِيْنَ وَ الْمُؤْصِلِيْنَ  
وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
يُضَعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

19. And those who believed in Allah and His Messengers, those are they who are the most truthful, and the witnesses with their Lord. For them is their reward and their light. And those who disbelieved and denied Our revelations, they are dwellers of Hell.

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور  
اسکے رسولوں پر۔ وہی لوگ میں جو  
میں صدقیت۔ اور شہید اپنے رب کے  
نزدیک۔ انکے لئے ہے ان کا اجر اور  
ان کا نور۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر  
کیا اور جھٹکالیا ہماری آنکھوں کو وہی اہل  
دوزخ میں۔

وَالَّذِيْنَ امْتَوْا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُوْنَ  
وَ الشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِاِيْتَنَا أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَاحِيْمِ

20. Know in fact, the life of this world is play, and amusement, and adornment, and boasting among you, and rivalry in increase of wealth and children. Like the example of rain which pleases the tillers, its resulting vegetation, then it ripens, then you see it

جان رکھو درحقیقت دنیا کی زندگی  
ہے کھیل اور تماشا اور نینت اور تفاخر  
تمہارے آپس میں اور ایک دوسرے  
سے زیادہ کی طلب اموال میں اور  
اولاد میں۔ اسکی مثال ایسی ہے  
جیسے بارش کے ایسی لگتی ہے کسانوں  
کو اس سے اگنے والی کھیتی پھر وہ

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ  
وَهُوَ وَزِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْتَكُمْ وَ  
تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ  
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغْجَبَ الْكُفَّارَ  
بِنَاءً ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا أُثْمَّ  
يَكُونُ حُطَمَّاً وَ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ  
رِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا  
مَتَاعُ الْعَرُوبِ

turned yellow, then it becomes straw. And in the Hereafter is severe punishment, and forgiveness from Allah, and good pleasure. And the life of the world is nothing but matter of illusion.

پک جاتی ہے تو دیکھتے ہو تم اسکو زرد ہو گئی پھر ہو جاتی ہے بھس۔ اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔

اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی ہے۔ اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا۔

**21.** Race one with another towards the forgiveness from your Lord and a Garden whose width is like the width of the heavens and the earth. It is prepared for those who believed in Allah and His messengers. Such is the bounty of Allah, which He bestows upon whom He wills, and Allah is of infinite bounty.

سبقت ماحصل کرو ایک دوسرے سے مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کے وسعت ہے جس کی وسعت کی مانند آسمان اور زمین کی۔ وہ تیار کی گئی ہے ان کے لئے جو ایمان لائے اللہ پر اور اسکے رسولوں پر یہ ہے فضل اللہ کا۔ وہ عطا فرماتا ہے جسے پاہتا ہے۔ اور اللہ پر فضل والا ہے۔

**22.** Does not befall any affliction upon the earth, nor in your own selves, except that it is in a Book before that We bring it into being. Indeed, that is for Allah easy.

نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ہے ایک کتاب میں پیشہ اسکے کہ ہم اسکو پیدا کریں۔ بلاشبہ یہ ہے اللہ کے لئے آسان۔

**23.** That you are not despaired over what

تاکہ نہ غم کیا کرو اس پر جونہ ماحصل ہو

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَمَرْسِلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمُ

مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
يَسِيرٌ

تَقْرَبُوا إِمَّا أَنْتُمْ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوَّبِ<sup>۝</sup>

has escaped you, nor exult over that which He has given to you. And Allah does not love any arrogant, boastful.

24. Those who are misers and enjoin upon people miserliness. And whoever turns away, then indeed Allah is All Sufficient, All Praiseworthy.

25. Indeed, We sent Our messengers with clear signs, and We sent down with them the Scripture and the balance so that may stand people by justice. And We sent down iron, wherein is great strength and benefits for the people. And that Allah may know who helps Him and His messengers unseen. Indeed, Allah is All Strong, All Mighty.

26. And indeed We sent Noah and Abraham, and We placed in the progeny of them both the prophethood and the Scripture. So among

سکا تمیں اور نہ اڑایا کرو اس پر جو اس نے دیا تکو اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی اڑانے والے فخر جانے والے کو۔

وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور اکساتے ہیں لوگوں کو بخل پر۔ اور جو کوئی روگردانی کرے تو بلا شہب اللہ ہی بے نیاز ہے لا اقت مد و شنا ہے۔

بیشک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میریان تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر۔ اور اتارا ہم نے لوہا کہ اس میں ہے زور شدت کا۔ اور فائدے میں لوگوں کے لئے اور تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اسکی اور اسکے رسولوں کی بن دیکھے۔ بیشک اللہ زور آور ہے غالب ہے۔

اور بیشک ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور رکھدی ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب سو کوئی تو ان میں سے ہدایت پر ہے۔ اور اکثر ان

الَّذِينَ يَيْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ  
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَ فَلَأَنَّ  
اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ<sup>۲۶</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا  
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ  
رَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ  
عَزِيزٌ<sup>۲۷</sup>

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ  
وَجَعَلْنَا فِي ذِرَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ  
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهَتَّدٌ وَ كَثِيرٌ  
مِنْهُمْ فُسِّقُونَ<sup>۲۸</sup>

them is he who is guided, and many of them are disobedient.

میں سے نافرمان ہیں۔

**27. Then We caused to follow in their footsteps Our messengers, and We caused to follow Jesus, son of Mary, and We gave him the Gospel, and We placed, in the hearts of those who followed him, compassion and mercy. And monasticism, they innovated it. We did not ordain it for them, but for seeking the pleasure of Allah. Then they did not observe it with its right observance. So we gave those who had believed among them their reward. And many of them are disobedient.**

پھر پے در پے بھجے ہم نے انکے پیچے اپنے رسول اور انکے پیچے بھجا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو اور دی اسکو ہم نے انجلیل، اور ڈالدی ہم نے دلوں میں انکے جنہوں نے انباع کی اسکی شفقت اور مہربانی ۔ اور رہبانیت تو اسجاد کی انہوں نے نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے انپر مگر یہ کہ تلاش کریں خوشنودی اللہ کی پھرنہ نباه سکے اسکو حق تھا جیسا اسکون بنائے کا تو ہم نے دیا انکو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر ۔ اور بہت سے ان میں نافرمان ہیں۔

**28. O those who believed, fear Allah and believe in His Messenger, He will grant you twofold of His mercy, and He will appoint for you a light you will walk by which, and He will forgive you. And Allah**

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور ایمان لاوے اسکے رسول پر عطا فرمائے گا وہ تمہیں دگنا اجر اپنی رحمت سے اور دے گا تمہیں نور چلو گے تم جس میں اور بخش دے گا تکو اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰  
۱۰۱  
۱۰۲  
۱۰۳  
۱۰۴  
۱۰۵  
۱۰۶  
۱۰۷  
۱۰۸  
۱۰۹  
۱۱۰  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰  
۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰  
۲۰۱  
۲۰۲  
۲۰۳  
۲۰۴  
۲۰۵  
۲۰۶  
۲۰۷  
۲۰۸  
۲۰۹  
۲۱۰  
۲۱۱  
۲۱۲  
۲۱۳  
۲۱۴  
۲۱۵  
۲۱۶  
۲۱۷  
۲۱۸  
۲۱۹  
۲۲۰  
۲۲۱  
۲۲۲  
۲۲۳  
۲۲۴  
۲۲۵  
۲۲۶  
۲۲۷  
۲۲۸  
۲۲۹  
۲۳۰  
۲۳۱  
۲۳۲  
۲۳۳  
۲۳۴  
۲۳۵  
۲۳۶  
۲۳۷  
۲۳۸  
۲۳۹  
۲۴۰  
۲۴۱  
۲۴۲  
۲۴۳  
۲۴۴  
۲۴۵  
۲۴۶  
۲۴۷  
۲۴۸  
۲۴۹  
۲۴۱۰  
۲۴۱۱  
۲۴۱۲  
۲۴۱۳  
۲۴۱۴  
۲۴۱۵  
۲۴۱۶  
۲۴۱۷  
۲۴۱۸  
۲۴۱۹  
۲۴۲۰  
۲۴۲۱  
۲۴۲۲  
۲۴۲۳  
۲۴۲۴  
۲۴۲۵  
۲۴۲۶  
۲۴۲۷  
۲۴۲۸  
۲۴۲۹  
۲۴۳۰  
۲۴۳۱  
۲۴۳۲  
۲۴۳۳  
۲۴۳۴  
۲۴۳۵  
۲۴۳۶  
۲۴۳۷  
۲۴۳۸  
۲۴۳۹  
۲۴۳۱۰  
۲۴۳۱۱  
۲۴۳۱۲  
۲۴۳۱۳  
۲۴۳۱۴  
۲۴۳۱۵  
۲۴۳۱۶  
۲۴۳۱۷  
۲۴۳۱۸  
۲۴۳۱۹  
۲۴۳۲۰  
۲۴۳۲۱  
۲۴۳۲۲  
۲۴۳۲۳  
۲۴۳۲۴  
۲۴۳۲۵  
۲۴۳۲۶  
۲۴۳۲۷  
۲۴۳۲۸  
۲۴۳۲۹  
۲۴۳۳۰  
۲۴۳۳۱  
۲۴۳۳۲  
۲۴۳۳۳  
۲۴۳۳۴  
۲۴۳۳۵  
۲۴۳۳۶  
۲۴۳۳۷  
۲۴۳۳۸  
۲۴۳۳۹  
۲۴۳۴۰  
۲۴۳۴۱  
۲۴۳۴۲  
۲۴۳۴۳  
۲۴۳۴۴  
۲۴۳۴۵  
۲۴۳۴۶  
۲۴۳۴۷  
۲۴۳۴۸  
۲۴۳۴۹  
۲۴۳۵۰  
۲۴۳۵۱  
۲۴۳۵۲  
۲۴۳۵۳  
۲۴۳۵۴  
۲۴۳۵۵  
۲۴۳۵۶  
۲۴۳۵۷  
۲۴۳۵۸  
۲۴۳۵۹  
۲۴۳۶۰  
۲۴۳۶۱  
۲۴۳۶۲  
۲۴۳۶۳  
۲۴۳۶۴  
۲۴۳۶۵  
۲۴۳۶۶  
۲۴۳۶۷  
۲۴۳۶۸  
۲۴۳۶۹  
۲۴۳۷۰  
۲۴۳۷۱  
۲۴۳۷۲  
۲۴۳۷۳  
۲۴۳۷۴  
۲۴۳۷۵  
۲۴۳۷۶  
۲۴۳۷۷  
۲۴۳۷۸  
۲۴۳۷۹  
۲۴۳۸۰  
۲۴۳۸۱  
۲۴۳۸۲  
۲۴۳۸۳  
۲۴۳۸۴  
۲۴۳۸۵  
۲۴۳۸۶  
۲۴۳۸۷  
۲۴۳۸۸  
۲۴۳۸۹  
۲۴۳۹۰  
۲۴۳۹۱  
۲۴۳۹۲  
۲۴۳۹۳  
۲۴۳۹۴  
۲۴۳۹۵  
۲۴۳۹۶  
۲۴۳۹۷  
۲۴۳۹۸  
۲۴۳۹۹  
۲۴۳۱۰۰  
۲۴۳۱۱۰  
۲۴۳۱۲۰  
۲۴۳۱۳۰  
۲۴۳۱۴۰  
۲۴۳۱۵۰  
۲۴۳۱۶۰  
۲۴۳۱۷۰  
۲۴۳۱۸۰  
۲۴۳۱۹۰  
۲۴۳۲۰۰  
۲۴۳۲۱۰  
۲۴۳۲۲۰  
۲۴۳۲۳۰  
۲۴۳۲۴۰  
۲۴۳۲۵۰  
۲۴۳۲۶۰  
۲۴۳۲۷۰  
۲۴۳۲۸۰  
۲۴۳۲۹۰  
۲۴۳۳۰۰  
۲۴۳۳۱۰  
۲۴۳۳۲۰  
۲۴۳۳۳۰  
۲۴۳۳۴۰  
۲۴۳۳۵۰  
۲۴۳۳۶۰  
۲۴۳۳۷۰  
۲۴۳۳۸۰  
۲۴۳۳۹۰  
۲۴۳۴۰۰  
۲۴۳۴۱۰  
۲۴۳۴۲۰  
۲۴۳۴۳۰  
۲۴۳۴۴۰  
۲۴۳۴۵۰  
۲۴۳۴۶۰  
۲۴۳۴۷۰  
۲۴۳۴۸۰  
۲۴۳۴۹۰  
۲۴۳۵۰۰  
۲۴۳۵۱۰  
۲۴۳۵۲۰  
۲۴۳۵۳۰  
۲۴۳۵۴۰  
۲۴۳۵۵۰  
۲۴۳۵۶۰  
۲۴۳۵۷۰  
۲۴۳۵۸۰  
۲۴۳۵۹۰  
۲۴۳۶۰۰  
۲۴۳۶۱۰  
۲۴۳۶۲۰  
۲۴۳۶۳۰  
۲۴۳۶۴۰  
۲۴۳۶۵۰  
۲۴۳۶۶۰  
۲۴۳۶۷۰  
۲۴۳۶۸۰  
۲۴۳۶۹۰  
۲۴۳۷۰۰  
۲۴۳۷۱۰  
۲۴۳۷۲۰  
۲۴۳۷۳۰  
۲۴۳۷۴۰  
۲۴۳۷۵۰  
۲۴۳۷۶۰  
۲۴۳۷۷۰  
۲۴۳۷۸۰  
۲۴۳۷۹۰  
۲۴۳۸۰۰  
۲۴۳۸۱۰  
۲۴۳۸۲۰  
۲۴۳۸۳۰  
۲۴۳۸۴۰  
۲۴۳۸۵۰  
۲۴۳۸۶۰  
۲۴۳۸۷۰  
۲۴۳۸۸۰  
۲۴۳۸۹۰  
۲۴۳۹۰۰  
۲۴۳۹۱۰  
۲۴۳۹۲۰  
۲۴۳۹۳۰  
۲۴۳۹۴۰  
۲۴۳۹۵۰  
۲۴۳۹۶۰  
۲۴۳۹۷۰  
۲۴۳۹۸۰  
۲۴۳۹۹۰  
۲۴۳۱۰۰۰  
۲۴۳۱۱۰۰  
۲۴۳۱۲۰۰  
۲۴۳۱۳۰۰  
۲۴۳۱۴۰۰  
۲۴۳۱۵۰۰  
۲۴۳۱۶۰۰  
۲۴۳۱۷۰۰  
۲۴۳۱۸۰۰  
۲۴۳۱۹۰۰  
۲۴۳۲۰۰۰  
۲۴۳۲۱۰۰  
۲۴۳۲۲۰۰  
۲۴۳۲۳۰۰  
۲۴۳۲۴۰۰  
۲۴۳۲۵۰۰  
۲۴۳۲۶۰۰  
۲۴۳۲۷۰۰  
۲۴۳۲۸۰۰  
۲۴۳۲۹۰۰  
۲۴۳۳۰۰۰  
۲۴۳۳۱۰۰  
۲۴۳۳۲۰۰  
۲۴۳۳۳۰۰  
۲۴۳۳۴۰۰  
۲۴۳۳۵۰۰  
۲۴۳۳۶۰۰  
۲۴۳۳۷۰۰  
۲۴۳۳۸۰۰  
۲۴۳۳۹۰۰  
۲۴۳۴۰۰۰  
۲۴۳۴۱۰۰  
۲۴۳۴۲۰۰  
۲۴۳۴۳۰۰  
۲۴۳۴۴۰۰  
۲۴۳۴۵۰۰  
۲۴۳۴۶۰۰  
۲۴۳۴۷۰۰  
۲۴۳۴۸۰۰  
۲۴۳۴۹۰۰  
۲۴۳۵۰۰۰  
۲۴۳۵۱۰۰  
۲۴۳۵۲۰۰  
۲۴۳۵۳۰۰  
۲۴۳۵۴۰۰  
۲۴۳۵۵۰۰  
۲۴۳۵۶۰۰  
۲۴۳۵۷۰۰  
۲۴۳۵۸۰۰  
۲۴۳۵۹۰۰  
۲۴۳۶۰۰۰  
۲۴۳۶۱۰۰  
۲۴۳۶۲۰۰  
۲۴۳۶۳۰۰  
۲۴۳۶۴۰۰  
۲۴۳۶۵۰۰  
۲۴۳۶۶۰۰  
۲۴۳۶۷۰۰  
۲۴۳۶۸۰۰  
۲۴۳۶۹۰۰  
۲۴۳۷۰۰۰  
۲۴۳۷۱۰۰  
۲۴۳۷۲۰۰  
۲۴۳۷۳۰۰  
۲۴۳۷۴۰۰  
۲۴۳۷۵۰۰  
۲۴۳۷۶۰۰  
۲۴۳۷۷۰۰  
۲۴۳۷۸۰۰  
۲۴۳۷۹۰۰  
۲۴۳۸۰۰۰  
۲۴۳۸۱۰۰  
۲۴۳۸۲۰۰  
۲۴۳۸۳۰۰  
۲۴۳۸۴۰۰  
۲۴۳۸۵۰۰  
۲۴۳۸۶۰۰  
۲۴۳۸۷۰۰  
۲۴۳۸۸۰۰  
۲۴۳۸۹۰۰  
۲۴۳۹۰۰۰  
۲۴۳۹۱۰۰  
۲۴۳۹۲۰۰  
۲۴۳۹۳۰۰  
۲۴۳۹۴۰۰  
۲۴۳۹۵۰۰  
۲۴۳۹۶۰۰  
۲۴۳۹۷۰۰  
۲۴۳۹۸۰۰  
۲۴۳۹۹۰۰  
۲۴۳۱۰۰۰۰  
۲۴۳۱۱۰۰۰  
۲۴۳۱۲۰۰۰  
۲۴۳۱۳۰۰۰  
۲۴۳۱۴۰۰۰  
۲۴۳۱۵۰۰۰  
۲۴۳۱۶۰۰۰  
۲۴۳۱۷۰۰۰  
۲۴۳۱۸۰۰۰  
۲۴۳۱۹۰۰۰  
۲۴۳۲۰۰۰۰  
۲۴۳۲۱۰۰۰  
۲۴۳۲۲۰۰۰  
۲۴۳۲۳۰۰۰  
۲۴۳۲۴۰۰۰  
۲۴۳۲۵۰۰۰  
۲۴۳۲۶۰۰۰  
۲۴۳۲۷۰۰۰  
۲۴۳۲۸۰۰۰  
۲۴۳۲۹۰۰۰  
۲۴۳۳۰۰۰۰  
۲۴۳۳۱۰۰۰  
۲۴۳۳۲۰۰۰  
۲۴۳۳۳۰۰۰  
۲۴۳۳۴۰۰۰  
۲۴۳۳۵۰۰۰  
۲۴۳۳۶۰۰۰  
۲۴۳۳۷۰۰۰  
۲۴۳۳۸۰۰۰  
۲۴۳۳۹۰۰۰  
۲۴۳۴۰۰۰۰  
۲۴۳۴۱۰۰۰  
۲۴۳۴۲۰۰۰  
۲۴۳۴۳۰۰۰  
۲۴۳۴۴۰۰۰  
۲۴۳۴۵۰۰۰  
۲۴۳۴۶۰۰۰  
۲۴۳۴۷۰۰۰  
۲۴۳۴۸۰۰۰  
۲۴۳۴۹۰۰۰  
۲۴۳۵۰۰۰۰  
۲۴۳۵۱۰۰۰  
۲۴۳۵۲۰۰۰  
۲۴۳۵۳۰۰۰  
۲۴۳۵۴۰۰۰  
۲۴۳۵۵۰۰۰  
۲۴۳۵۶۰۰۰  
۲۴۳۵۷۰۰۰  
۲۴۳۵۸۰۰۰  
۲۴۳۵۹۰۰۰  
۲۴۳۶۰۰۰۰  
۲۴۳۶۱۰۰۰  
۲۴۳۶۲۰۰۰  
۲۴۳۶۳۰۰۰  
۲۴۳۶۴۰۰۰  
۲۴۳۶۵۰۰۰  
۲۴۳۶۶۰۰۰  
۲۴۳۶۷۰۰۰  
۲۴۳۶۸۰۰۰  
۲۴۳۶۹۰۰۰  
۲۴۳۷۰۰۰۰  
۲۴۳۷۱۰۰۰  
۲۴۳۷۲۰۰۰  
۲۴۳۷۳۰۰۰  
۲۴۳۷۴۰۰۰  
۲۴۳۷۵۰۰۰  
۲۴۳۷۶۰۰۰  
۲۴۳۷۷۰۰۰  
۲۴۳۷۸۰۰۰  
۲۴۳۷۹۰۰۰  
۲۴۳۸۰۰۰۰  
۲۴۳۸۱۰۰۰  
۲۴۳۸۲۰۰۰  
۲۴۳۸۳۰۰۰  
۲۴۳۸۴۰۰۰  
۲۴۳۸۵۰۰۰  
۲۴۳۸۶۰۰۰  
۲۴۳۸۷۰۰۰  
۲۴۳۸۸۰۰۰  
۲۴۳۸۹۰۰۰  
۲۴۳۹۰۰۰۰  
۲۴۳۹۱۰۰۰  
۲۴۳۹۲۰۰۰  
۲۴۳۹۳۰۰۰  
۲۴۳۹۴۰۰۰  
۲۴۳۹۵۰۰۰  
۲۴۳۹۶۰۰۰  
۲۴۳۹۷۰۰۰  
۲۴۳۹۸۰۰۰  
۲۴۳۹۹۰۰۰  
۲۴۳۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۱۰۰۰۰  
۲۴۳۱۲۰۰۰۰  
۲۴۳۱۳۰۰۰۰  
۲۴۳۱۴۰۰۰۰  
۲۴۳۱۵۰۰۰۰  
۲۴۳۱۶۰۰۰۰  
۲۴۳۱۷۰۰۰۰  
۲۴۳۱۸۰۰۰۰  
۲۴۳۱۹۰۰۰۰  
۲۴۳۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۱۰۰۰۰  
۲۴۳۲۲۰۰۰۰  
۲۴۳۲۳۰۰۰۰  
۲۴۳۲۴۰۰۰۰  
۲۴۳۲۵۰۰۰۰  
۲۴۳۲۶۰۰۰۰  
۲۴۳۲۷۰۰۰۰  
۲۴۳۲۸۰۰۰۰  
۲۴۳۲۹۰۰۰۰  
۲۴۳۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۱۰۰۰۰  
۲۴۳۳۲۰۰۰۰  
۲۴۳۳۳۰۰۰۰  
۲۴۳۳۴۰۰۰۰  
۲۴۳۳۵۰۰۰۰  
۲۴۳۳۶۰۰۰۰  
۲۴۳۳۷۰۰۰۰  
۲۴۳۳۸۰۰۰۰  
۲۴۳۳۹۰۰۰۰  
۲۴۳۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۱۰۰۰۰  
۲۴۳۴۲۰۰۰۰  
۲۴۳۴۳۰۰۰۰  
۲۴۳۴۴۰۰۰۰  
۲۴۳۴۵۰۰۰۰  
۲۴۳۴۶۰۰۰۰  
۲۴۳۴۷۰۰۰۰  
۲۴۳۴۸۰۰۰۰  
۲۴۳۴۹۰۰۰۰  
۲۴۳۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۱۰۰۰۰  
۲۴۳۵۲۰۰۰۰  
۲۴۳۵۳۰۰۰۰  
۲۴۳۵۴۰۰۰۰  
۲۴۳۵۵۰۰۰۰  
۲۴۳۵۶۰۰۰۰  
۲۴۳۵۷۰۰۰۰  
۲۴۳۵۸۰۰۰۰  
۲۴۳۵۹۰۰۰۰  
۲۴۳۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۱۰۰۰۰  
۲۴۳۶۲۰۰۰۰  
۲۴۳۶۳۰۰۰۰  
۲۴۳۶۴۰۰۰۰  
۲۴۳۶۵۰۰۰۰  
۲۴۳۶۶۰۰۰۰  
۲۴۳۶۷۰۰۰۰  
۲۴۳۶۸۰۰۰۰  
۲۴۳۶۹۰۰۰۰  
۲۴۳۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۱۰۰۰۰  
۲۴۳۷۲۰۰۰۰  
۲۴۳۷۳۰۰۰۰  
۲۴۳۷۴۰۰۰۰  
۲۴۳۷۵۰۰۰۰  
۲۴۳۷۶۰۰۰۰  
۲۴۳۷۷۰۰۰۰  
۲۴۳۷۸۰۰۰۰  
۲۴۳۷۹۰۰۰۰  
۲۴۳۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۱۰۰۰۰  
۲۴۳۸۲۰۰۰۰  
۲۴۳۸۳۰۰۰۰  
۲۴۳۸۴۰۰۰۰  
۲۴۳۸۵۰۰۰۰  
۲۴۳۸۶۰۰۰۰  
۲۴۳۸۷۰۰۰۰  
۲۴۳۸۸۰۰۰۰  
۲۴۳۸۹۰۰۰۰  
۲۴۳۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹۱۰۰۰۰  
۲۴۳۹۲۰۰۰۰  
۲۴۳۹۳۰۰۰۰  
۲۴۳۹۴۰۰۰۰  
۲۴۳۹۵۰۰۰۰  
۲۴۳۹۶۰۰۰۰  
۲۴۳۹۷۰۰۰۰  
۲۴۳۹۸۰۰۰۰  
۲۴۳۹۹۰۰۰۰  
۲۴۳۱۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۱۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۲۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۳۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۴۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۵۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۶۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۷۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۴۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۵۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۶۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۷۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۸۰۰۰۰۰  
۲۴۳۸۹۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹۰۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹۱۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹۲۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹۳۰۰۰۰۰  
۲۴۳۹

is All Forgiving, All Merciful.

29. So that may know the people of the Scripture that they do not have power on anything over the bounty of Allah, and that the bounty is in the hand of Allah, which He bestows to whomever He wills, And Allah is of infinite bounty.

تاكہ جان لیں اہل کتاب کے نہیں رکھتے قدرت کسی چیز میں اللہ کے فضل پر۔ اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو وہ دیتا ہے جسکو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

لَكُلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَبِ إِلَّا  
يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمُ

